

Nuunu ita

الأصول الثلاثة

Imam Muhammadu Abudul-Wahaabu

Alfa wì u tire tè tusian yĩsira:

ALASAN MUUSA Isihaaku

(ALASSANE MOUSSA Ishaq)

Kankaraasun damba: 00229 955077173

Alfa wì u tusia bi sɔnwan yĩsira:

Abubakari SAALIFU (Aboubakar SALIFOU)

Kankaraasun damba: 0022995051175

Email : alchekh@gmail.com

Tire yoron yĩsira: SINABUDEGI DAFIA
Awali (SINABOUDEGUI LAFIA Awali)

Kankaraasun damba: 0022997420520 /
95093559

Email: awalilafia@gmail.com

www.islamic-invitation.com

Ka Gusunɔn yĩsiru, wɔnwɔndugii, Wì u yè ba taka kua kpuro wɔnwɔndu sãawe andunia mì. Wɔnwɔn bakarugii, Wì u koo Win yòo geobu tɔna wɔnwɔndu kua gɔri gia.

A gio (Gusunɔ ù nun wɔnwɔndu kua) mɛ̀ n sun sãawewa tirasi su gãanu nne gaa gia :

- ✓ **Gãa gbiika** : Yẽru : tera a Gusunɔ tubu, a Win gɔro tubu kpa a Asilaamaru tubu ka daaliiliba.
- ✓ **Gãanu yiruse** : A ka yɛɛ te sɔmburu ko.
- ✓ **Gãanu itase** : A tɔmbu soku swaa ye sɔɔ.
- ✓ **Gãanu nneɛse** : A suuru ko ka bitanni yè kaa wa ye sɔɔ.

Yen daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

المسألة الأولى: العِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.

المسألة الثانية: العَمَلُ بِهِ.

المسألة الثالثة: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

المسألة الرابعة: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

Ka Gusunɔn yĩsiru, wɔnwɔndugii, Wì u yè ba taka kua kpuro wɔnwɔndu sãawe andunia mì. Wɔnwɔn bakarugii, Wì u koo Win yòo geobu tɔna wɔnwɔndu kua gɔri gia.

«(Gusunɔ U bɔrua U nɛɛ) **Ka sanam! Tɔn bii u wãawa asaara sɔɔ, sere bè ba gee wẽ ma ba sɔm geenu kua, ma ba gari kɛɛna ka gee ma ba gari kɛɛna ka suuru** ». Suuratu Āsr (Suura 103se)

Lemam Saafiya (Gusunɔ ù wii wɔnwɔndu kua) u nɛɛ “**Baa Gusunɔ ù ku ràa maa win yè U taka kua gari gɛɛ sarasiamɛ suura yènin biru, suura ye ya ràa bè tura**”

Ma Lemam Buhaari (Gusunɔ ù wii wɔnwɔndu kua) u nɛɛ “**gari wiru Yẽra ta ra gbii, gere ka kom mu sere swii.**”

Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: “**A gio mè yinni goo sari wì n weenɛ bu yòru diiya ka gee ma n kùn Gusunɔ kpa a wunen tòranun gaafara kana**” Suuratu Muhammadu (Suura 47sen) Aya 19se. Gusunɔ U toruawa ka yẽru (u sere gere ka kom swiisia.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ سورة العصر كاملة.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَّتْهُمْ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ (قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ) مَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ: لَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ.

A gio (Gusunɔ̀ ù nun wɔ̀nwɔ̀ndu kuwa) mɛ̀ n asilaama tɔ̀n durɔ̀ ka tɔ̀n kurɔ̀ sãawewa tirasi ù gari ita yenin yẽru kasu kpa ù ka yè sɔ̀mburu ko.

Gbiika: Gusunɔ̀ u sun tàka kuawa ma u sun yarumani kpuro kã. Ma U ù sun deri kam sɔ̀ɔ̀ adama u sun gòro gɔ̀riamawa. Wì u wii swĩi u koo arusanna duwa, wì u màa wii swĩibu yina u koo dɔ̀ɔ̀ duwa.

Yen daliili wee Gusunɔ̀n gere yeni sɔ̀ɔ̀:

“Bɛsɛra Sa bɛɛ gòro gɔ̀ria u bɛɛ seeda sãa nde mɛ̀ Sa ràa Firuana gòro gɔ̀ria ma Firuana u gòro wi swĩibu yina ma Sa wii nɔ̀ma doke, nɔ̀ma doke bi bu bɔ̀ɔ̀bu” Suuratu Al-Muzzamil (Suura 73se) yen Aaya 15 ka 16se.

Yiruse: Gusunɔ̀ kùn yɔ̀lla kue bù ka Wii goo menna win yòru dibu sɔ̀ɔ̀: baa Win malaika turukugii goo ù kun mɛ̀ Andemi wì ba gɔ̀rima.

Yen daliili wee Gusunɔ̀n gere yeni:

“Gìngireba kpuro Gusunɔ̀giba: i ku goo kana i ka Gusunɔ̀ menna” Suuratu Al-Jinn (Suura 72se) yen Aaya 18se.

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ،
تَعْلُمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلٍ، وَالْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأولى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا،
بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]

الثانية: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي
عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]

Itase: Wì u Gusunɔn gèro swĩi, ma u Gusunɔ turo kua, n ò weene ù Gusunɔ ka Win gèron werɔ sua bɔrɔ kinasi, baa yèrò ù n sãa win mero bisi turukugii. Yen daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: *"A ò wasi tɔmbu sɔɔ bè ba Gusunɔ gee wɛɛ ma ba tɔɔ dãakiru gee wɛɛ bu Gusunɔ ka win gèron werɔbu sua bɔrɔ kinasibu baa yèròbu bà n sãa ben baababa ò kun mɛ ben bibu ò kun mɛ ben mero bisibu ò kun mɛ ben bweserun tɔmbu. Tɔn be, Gusunɔ u ben gɔrsu sɔɔ iimaani (gee wɛɛbu) dokewa ma u bè somi ka Win yiko. U koo bè duusia Arusanna yèn temɔ daanu nu ko n kokumɔ, miya ba ko n wãa ka baadomma. Gusunɔ u bè yɔlla kua ma ba Gusunɔ yɔlla kua. Tɔn be, Gusunɔn kuregiba mi. Gusunɔn Kuregiba ba koo màa tɔbura".* Suuratu Al-Hasr (Suura 59se) yen Aaya 22se.

A gio Gusunɔ ù nun doke Win swĩiwobu sɔɔ mè **Hanifiya**, Andemi Iburaimun sãaru ta sãawa a Gusunɔ tɔna yòru diiya a n wunen gɔru deerasie yòo dii bi sɔɔ!

الثَّالِثَةُ: أَنْ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

Nde mena Gusunɔ u tɔmbu kpuro yiire, yen sɔna U màa bè taka kua. Yen sɔna U nɛɛ:

“Na n̄ siiniba ka tɔn bibu tàka kue gãanu gaan s̄s sere bu Man yòru diiya” Suuratu Az-Zariyat (Suura 51se) yen Aaya 56se. Yè ba ra nɛɛ **“bu Man yòru diiya”**: yera bu Man turo ko.

Yè Gusunɔ U ka sun fòoro kua sɔɔ, yè ya kere yera Gusunɔ turo kobu. Yera su Wi tɔna yòru diiya.

Yè Gusunɔ u màa sun yinari sɔɔ, yè ya kere yera b̄u s̄aru yera a gãanu yòru diiya a ka Gusunɔ menna : Gusunɔ u nɛɛ **“I Gusunɔ yòru diiyo i ku ka Wii gãanu gaa menna”** Suuratu An-Nisa’ (Suura 4se) yen Aaya 36se.

Bà n nun bikia: gari konu ita yerà n weene tɔn bii u n yẽ?

A nɛɛ: n weene yòo ù win Yinni giawa, kpa ù win s̄aru gia kpa ù win andemi gia Muhammadu (Gusunɔn tɔbiribu ka win daakari kpindu tù wii turiri).

وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وَمَعْنَى ﴿يَعْبُدُونِ﴾: يُؤَحِّدُونَ،

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ.

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكَ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bà n nun bikia: Warà wunen yinni?

A nɛɛ: Gusunɔwa U sãa nen Yinni. Wiya U man seeya ma U andunia gira seeya ka win kɛnu. Wi tɔnawa na ko yòru diiya, Wi baasi, na òn goò yòrudiiyammɛ. Nde mè Gusunɔ u nɛɛ: **“Gusunɔwa U ka siarɔ weenɛ yè ba taka kua kpuron Yinni.”** Gusunɔn biru yè ya tie kpuro ya sãawa yè ba taka kua. Na màa sãawa yè ba taka kuan tia.

Yen biru bà n nun bikia: Mba a ka wunen yinni wi tuba?

A nɛɛ: Saa win maamaaki ka yè U taka kuan min di. Win maamaaki sɔɔwa: wɔ̀kuru ka sɔɔsɔɔ, ka sɔɔ ka suru. Yè U taka kuan gaa màa wɔ̀llu nɔba yiru ka tem nɔba yiru ka yè ya wãa wɔ̀llu ka tem sɔɔ ka wɔ̀llu ka tem baa sɔɔ. Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **“Win maamaaki gana, wɔ̀kuru ka sɔɔsɔɔ ka sɔɔ ka suru. I ku sɔɔ ka suru siriru tem tura. Adama i Gusunɔ siriru tem turo wì u ye kpuro taka kua, ma wiya i yòru diiyammɛ’.** Suuratu Fussilate (Suura 41se) yen Aaya 37se.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي، وَرَبِّي جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَيْنَهُمَا؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

Nde mena maa Win gere yèni sɔɔ: *“Bɛɛn Yinni wiya u sãa Gusunɔ, wì u wɔllu ka tem taka kua sɔɔ nɔbaa tia sɔɔ, ma U sina Win sina kitaru wɔllu. Wiya U ra wɔkuru sue Ù ka sɔɔsɔɔ wukiri kpa ya n kɔsinamɔ ka sãabu. U sɔɔ ka suru ka kperi duyasia yu tii wɛɛ yu m̀̀ yè u yì yiire. Wi tɔnawa U ra taka ko Wiya u ra màa fòoro ko. Gusunɔn sinandun baruka ya kpã, yè ba taka kua kpuron Yinni.”* Suuratu Al-Araf (Suura 7se) yen Aaya 54se.

Yinni wiya ba ra yòru diiye. Yen daliili wee aaya yèni sɔɔ: *“ Bɛɛ Tɔmbu woo! I bɛɛn Yinni yòru diiyo, Wì u bɛɛ taka kua, bɛɛ ka bè ba bɛɛ gbiye. Nwa i wii nasia. Wiya u bɛɛ tem teriya ma u bɛɛ wɔllu kua ta nɔɔ nɛ ma ta dam mɔ ma u nim sarasiama wɔllun di ma u nim mɛ ka dãa marum bwese bweseka kpiisia ya bɛɛ sãawe yarumani. I ku wii saaraba kua yèn biru i yeni yɛ̃ ”.* Suuratu Bakɔra (Suura 2se) yen aaya21 ka 22se.

Lemam Ibutu Kasiiru (Gusunɔ ù wii wɔnwɔndu kua) u nɛɛ *“Wì u yeniba kpuro taka kua, wiya n weene bù yòru diiya”*

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ.

Yòo dii bwese bweseka yè Gusunɔ u sun yiire ye wee: Asilaamaru (tii wɛɛbu), iimaani (gee wɛɛbu), gean kobu. Yòo dii bin gaba maa: kanaru, berum, kàmuna (a n yĩɔ), sellibu, bìnɛ, nandabu, tii duyasiabu, nasiaru, a wuraa Gusunɔn mi, sòmiron kanabu, kɔsubun kanabu, faaba kanabu, sākàru, arukawali suabu, ka sere maa yòo dii bwese bweseka yè Gusunɔ u sun yiire, ye kpuro Gusunɔgia.

Yen daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: **“Gingirenu kpuro Gusunɔgina: i ku goo kana i ka Gusunɔ menna”** Suuratu Al-Jinn (Suura 72se) yen Aaya 18se. Wì u yòo dii binin gabu goo kua Gusunɔn biru, yèrò u kuawa mi bũu sãwɔ ma u kua kèferi. Yen daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: **“Wì u Gusunɔ sãamɔ u ka yinni goo menna kpa u n kun sere daliili gaa mɔ, win Yinniwa u koo wii yen dooru kua. Ka gem Gusunɔ Wi, U n kèferiba tɔbiamɔ.”** Suuratu Al-Muuminuunu (Suura 23se) yen Aaya 117se.

Hadiisi sɔɔ: Andemi (Gusunɔn siarɔ ka win turiribu bu wii turiri) u nɛɛ **“Kanara ta sãa yòru dibun wiru”**.

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ: الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالْاسْتِعَانَةُ، وَالْاسْتِعَاذَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

وَفِي الْحَدِيثِ: (الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ).

Yen dallili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: **“ma bεεn Yinni u nεε: i Man kanɔ, na koo bεεn kanaru mwa. Bè ba bakam mɔ, ba yina bu Man yòru diiya, n n̄ tεεmɔ bù ka d̄ɔɔ du ba n ḡεere.”**
Suuratu Gāafīru (Suura 40se) yen Aaya 60se.

Yè ya s̄ɔɔsii mè n weene su Gusunɔ bεrum ko ye wee Win gere yeni sɔɔ: **“I ku ben bεrum ko, adama i Nεn bεrum koowo, i n s̄aa gee w̄εwobu”**. Suuratu Imuraanu (Suura 3se) aaya175

Yè ya s̄ɔɔsii mè Gusunɔn miya n weene sa n da yè sa k̄i ȳiɔ, ye wee Win gere yeni sɔɔ: **“w̄i u ȳiɔ mè u koo ka win Yinni yinna, ù de ù s̄om buranu ko kpa ù ku ḡāanu gaa yòru diiya ù ka Gusunɔ menna”**. Suuratu Kahaf (Suura 18se) yen aaya 110.

Yè ya màa s̄ɔɔsii mè Gusunɔwa n weene su selli ye wee Win gere yeni sɔɔ: **“Gusunɔwa i ko selli, i n s̄aa gee w̄εwobu”** Suuratu Maa ida (Suura 5se) yen aaya 23.

Gusunɔ u maa nεε: **“W̄i u Gusunɔ selli, Gusunɔ U wii tura”** Suuratu Tɔlaaku (Suura 65se) yen aaya 3se.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

Yè ya bìne, nandabu ka tii duyasiabu sɔɔsii ye wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: “ **Ba ra n da gea kobun gàraasa mɔ̀wa kpa ba n sun kanamɔ̀ ka bìne ka nandabu ma ba ra n Sun tii duyasiye**” Suuratu Ambiyayi (Suura21se) yen aaya90se.

Yè ya nasiaru sɔɔsii ye wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: “ **I ku bè nasia, adama i Man nasio**” Suuratu Bakɔra (Suura 2se) yen aaya 150.

wurabu Gusunɔn mi, yen daliili wee Win gere yèni sɔɔ: “ **I wurò bæen Yinnin mi, kpa i Wii tii wē**”. Suuratu Zumaru (Suura 39se) yen aaya 54.

Sòmi kanabun daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: “ **Wunε tɔ̀nawa sa yòru diiyamme, wunε tɔ̀nan miya sa màa sòmiiuru kanamɔ̀.**” Suuratu Faatiha (Suura gbiika) yen 5se. Hadiisi sɔɔ, yen daliili wee: “ À n kaa sòmiru kana, a tè kanɔ Gusunɔn mi.”

Kɔ̀su kanabun daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: “ **A nεε: na kɔ̀subu kanamɔ̀ bururun Yinnin mi.**” Suuratu Falakɔ̀ (Suura 113se) yen aaya gbiika. Nde maa aaya yèni sɔɔ: “ **A nεε: Na kɔ̀subu kasu Gusunɔn mi, tɔ̀mbun Yinnin mi.**” Suuratu Nisaa (Suura 114se.)

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالْحُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي...﴾ الآية [البقرة: ١٥٠].

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ...﴾ الآية [الزمر: ٥٤].

وَدَلِيلُ الْاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاحة: ٥]. وَفِي الْحَدِيثِ: (...وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ).

وَدَلِيلُ الْاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١].

Faaba kanabun daliili wee Gusunɔn gere yèni sɔɔ: “*(I yaayo) sanam mè i faaba kanamɔ bɛɛn Yinnin mi, ma u bɛɛn kanaru mwa.*” Suura 8sen aaya9.

Sākarun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: “*A nɛɛ: nɛ, nen Yinni u man swaa sure yè ya dende, sãà tè ta sãa dee dee, andemi Iburaimun sãàru, wì u tii Gusunɔ tɔna wɛ, ma u n wãa bũu sãwobu sɔɔ. A nɛɛ: ka gem, nen guru tɔbiribu, nen sãkaru, nen wãaru ka nen gɔɔ kpuro Gunɔgia yè ba taka kua kpuron Yinni. Wì, u n beruse mɔ! Nde mena ba man yiire, nena na màa sãa wì u gbia u tii wɛ.*” Suuratu Anu āam(Suura 6se) yen aaya 161sen di sere ka 163se

Daliili wee maa *sunna* sɔɔ: “*Wì u gãanu gaa sãkaru kua Gusunɔn biru, Gusunɔ u yẽro bõrisi.*” Iman Musilimun tireru sɔɔ.

Arukawali suabun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: “*ba ra arukawali yibie ma ba tõru nasie tèn kõsa ya koo gãanu kpuro wukiri.*” Suuratu insaani (Suura 76se) yen aaya 7se.

وَدَلِيلُ الْاِسْتِغَاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ...﴾ [الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١-١٦٣].

وَمِنَ السُّنَّةِ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ). أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي (١٩٧٨) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.

وَدَلِيلُ النَّذْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].

Asilaamarun tububu ka daliiliba.

Asilaamaru ta sãawa tii Gusunɔ wɛɛbu ka Win turo kobu, ka yè U sun yiiren kobu, ka bũu sãarun tusibu ka bè ba tè mòn tusibu. Ten sin yenu itawa: Tii wɛɛbu (Asilaamaru), Gee wɛɛbu(iimaani), Gean kobu. Sin yee ten baatere ta màa ten gbereba mɔwa.

Sin yee gbiikiru: Tii wɛɛbu (Asilaamaru)

Asilaamarun gbere ba sãawa nɔɔbu: A seeda di mè *yinni goo sari wì n weene bù yòru diiya ka gee ma n kùn Gusunɔ ma Muhammadu u sãa Gusunɔn gòro, Guru tɔbiribun yɔrasiabu, Sàkaa wĩabu, Nɔɔ bɔkuru, ka Maka daabu.*

Seeda koo bin daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: “ *Gusunɔ u seeda kua, ma malaikaba ka yẽrobu ba màa seeda kua mè yinni goo sari wì n weene bù yòru diiya ka gee ma n kùn Wi (Gusunɔ). Wiya U gãanu kpuron yiko mɔ, Wiya kom yẽro.*” Suuratu Imuraanu (Suura 3se) yen aaya 18se.

مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

وَهُوَ: الاستِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبِرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

المرتبة الأولى: الإسلام

فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران، ١٨].

LA ILAAHA ILLALLAH yen tusiaru wee: *yinni goo sari wì n weene* bù yòru diiya ka gee ma n kùn Gusunɔ. *Sikibu ka sireeba mi, yen daaribu wee: (LA ILAAHA)* ya sãawa **sikibu**. Yè ba ra yòru diiye kpuro Gusunɔn biru ba yè sikiwa mi. (*ILLALLAH*) ya sãawa sirebu. Ya sirèmɔwa mè Gusunɔ tɔnawa ba ra yòru diiye, u n̄ nisi mɔ yòo dii bi sɔɔ, nde mena u n̄ màa beese mɔ win bandu sɔɔ.

Aaya yè ya sikibu ka s̄ire bin gari daarimɔ ye wee: **"A yaayo saa yè andemi Iburaahim u win baaba ka win tɔmbu sɔɔwa u n̄εε: yè i yòru diiyamm̄ε kpuro na yè yinawa, sere wì u man taka kua baasiya, domi ka gem Wiya u koo man swaa dee dee sure. Ma u kua mè gari yi yu ko n ka tie yu n wãa win bibu sɔɔ. Nwa bu wurama swaa dee dee sɔɔ"**. Suuratu Azzukhruf (Suura 43se) yen aaya 24 ka 25se

Ka maa Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **"(Andemi) A n̄εε: B̄εε tirerugibu woo! I na su n̄ɔɔsina b̄εε ka b̄εε gari ḡεεn wɔllɔ: su ku goo yòru diiya Gusunɔn biru, su ku wii beese waawa, kpa su ku b̄εε sɔɔ gabu sua yinnibu Gusunɔn biru". Bà n biru kisi (ba n̄ɔɔbu yina), i n̄εε: "i seeda koowo mè b̄εε, sa tii w̄ε (sa sãa asilaamaba)"**

Suuratu Al Imuraanun (Suura 3se) yen aaya 64se

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدُّ النَّفْيِ مِنَ الْإِثْبَاتِ (لَا إِلَهَ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (إِلَّا اللَّهُ) مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا: الَّذِي يُوضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الزخرف: ٢٦ - ٢٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فُقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ٦٤].

Yè n sɔɔsi mè Andemi Muhammadu (*Gusunɔn siarɔ ka win tɔbiribu bù wii turiri*) u sãa Gusunɔn gɔro ye wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **"Ka gem, gɔro u bɛɛ naawa bɛɛn tii sɔɔn di, wi, bɛɛn wasara yè sɔɔ i wãa ya wii bitanni mɔ, u bɛɛn dom seraa, u gee wɛwobu wãyo kuamme ma u ben wɔnwɔndu mɔ"** *Suuratu Tauba (Suura 9se) yen aaya 128se*

Yè ba ra nɛɛ "A seeda ko mè **MUHAMMADU** u sãa **Gusunɔn gɔro**" yera yè u sun yiire a yè ko, daabaaru yè sun sɔɔwa a yè gee mwa, yè u sun yanka ma u sun kai kua a ka yè tonda, a ku Gusunɔ sãa ka swaa gaa sere swaa yè u sun nɔɔ kã su ka Gusunɔ Wi sãa.

Guru tɔbiribu ka sàkaa wĩabu ka sere Gusunɔ turo kobun tubusiarun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **"Ba n màa bè gãanu gaa yiire sere bù Gusunɔ yòru diiya, wi tɔna, kpa bu ka yãkuru kpuro tonda, kpa bu guru tɔbiribu yãrasia, kpa bu sàkaa wĩa. Sãa tè ta sãa dee de, tera mi"**. *Suuratu Bayina (Suura 98se) yen aaya 5se*

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجْرَ وَالْأَيْعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥]

Nɔɔ bɔkurun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: *(Bεε bè i gee wē woo! Ba bεε nɔɔ bɔkuru kua tiraasi, nde mē ba raa bè ba bεε gbiiye tē kua tiraasi. Nwa i Gusunɔ nasia.)* Suuratu Bakɔra (Suura 2se) yen aaya 183se

Maka daabun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: *"Gusunɔwa u tɔmbu yiire bu Maka da, ben wì u koo kpī. Wii kùn gee wē, (yērò u de ù tubu mē) Gusunɔ u tii turaawa u n̄ yè u taka kuan bukata mɔ".* Suura 3sen aaya 9se

Sin yeru yiruse: Gee wēεbu (Imaani) : ya màa kàanu sàawa wata ka wɔkuru ka sɔndiru, ten tē ta kere yera tɔnu ù nεε: *yinni goo sari wì n weenε bù sãa ka gee ma n kùn Gusunɔ.* Kãa tē ta piibu bo tera ta sãa tɔnu ù gãa nì nu koo tɔnu mεera ko gawa saa swaan di. Sekuru ta màa sãawa gee wēεbun kãasa tia.

Gee wēεbun gbere ba sãawa nɔbaa tia: nde mē ya na hadiisi sɔɔ (A Gusunɔ gee wē, ka win Malaikaba, ka win tirenu, ka win gòrobu, ka tɔɔ dāakiru ka sere kanamaru, ten gea ka ten kōsa.)

وَدَلِيلُ الصِّیَامِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۳].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ۹۷].

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِيمَانُ وَهُوَ: بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: كَمَا فِي الْحَدِيثِ (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ).

Gbere nɔbaa tia yènin daliili wee Gusnɔn yèni sɔɔ: ” *Gea kobu kùn sãa yè i bɛɛn wuswaa kisimɔ sɔɔ yari yeru gia ñ kun mɛ sɔɔ kpee yeru gia. Adama gea kobu bu sãawa Gusunɔ gee wɛɛbu, ka tɔɔ dãakiru, ka Malaikaba, ka Gusunɔn tirenu ka Gusunɔn gòrobu.*” Suuratu Bakɔra (Suura 2se) yen aaya 177se.

Kanamarun daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: ”*Sa gãanu kpuro kuawa ka saka*” Suuratu Kɔmaru (Suura 54se) yen aaya 49se.

Sin yeru itasewa ya sãa gea kobu: Yen gbere ya sãawa tia nde mɛ ya wãa hadiisi sɔɔ ”A Gusunɔ yòru diiyo nde a Wii waamɔ, domi à n nɛɛ a ñ Wii waamɔ, Wi U nun waamɔ”

Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: ”*Ka gem, Gusunɔ u ra n ka bè ba Wii nasia ma ba sɔm geenu mɔ wãawa*” Suuratu Nahal (Suura 16se) yen aaya 128se

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

ودليل القدر: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

الْمَرْتَبَةُ الثَّلَاثَةُ: الْإِحْسَانُ أَرْكَانُهُ: وَلَهُ رُكْنٌ وَاحِدٌ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

Ka maa Gusunɔn gere yeni sɔɔ: *"A wunen naane dokeo Sunɔ Wì u gāanu kpuron yiko mɔn mi, Win wɔnwɔndu ta Win yè u taka kua kpuro wukirii, Wì u nun waamɔ saa yè sɔɔ a seemɔ (kaa gura tɔbiri), ma U wunen komanu waamɔ bè ba siriru tem tùramɔ sɔɔ. Ka gem, Wiya U gāanu kpuro nɔɔmɔ ma U gāanu kpuron yēru mɔ"*. Suuratu Shuaraa (Suura 26se) yen aaya 217se sere ka 220se

Ka sere maa Win gere yeni sɔɔ: *"N n̄ koorɔ a n wāa sɔmburu garu sɔɔ, n n̄ koorɔ a n Kuraanu garimɔ, n n̄ koorɔ i n màa komaru garu mɔ kpa Sa kun seeda sãa saa yè i yè mɔ"* Suuratu Yuunusu (Suura 10se) yen aaya61se.

Yen daliili wee màa sunna sɔɔ. Hadiisi yè ba mɔ hadiisi gibirilu yè baawere kpuro u yē. Umaru bunu Hataabu min diya ba yè mwama (Gusunɔn yolla yù wii turiri): u nεε *"Tõru gara sa sɔɔ Gusunɔn gɔron mi, yera durɔ goo u yarima u yāa kpikinu dokee nu bururi fem fem ma win seri yu tīri niki niki.*

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١].

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جَبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ

Wuu daarun seeda gaa kùn wāa wi sɔɔ, bɛsɛn goo kùn màa wii yē. U na u sina andemin wuswaawɔ. U andemin dūa ka wigii yinnasia ma u win nɔm taranu sɔndi (win tiin) taanu wɔllɔ. Ma u nɛɛ: "Wunɛ Muhammadu woo, a man sɔɔwɔ yè n da n asilaamaru". Gusunɔn gòro u nɛɛ: **asilaamara sãawa a seeda ko mɛ yinni goo sari wì n weenɛ bù yòoru dìiya ka gee ma n kùn Gusunɔ turo ma Muhammadu u sãa Gusunɔn gòro, kpa a guru tɔbiribu yɔrasia, kpa a sàkaa wīa, kpa a nɔɔ bɔke nɔɔ bɔku suru sɔɔ, kpa a maka da à n yen yiko mɔ. Ma durɔ wi u nɛɛ a gee gerua. Sa maamaaki kua ka win gari, u Andemi bikiamɔ ma u wii gee wɛɛmɔ. Ma u maa nɛɛ: "A man sɔɔwɔ yè ba ra nɛɛ gee wɛɛbu". Andemi u wii wisa u nɛɛ: " Gee wɛɛbu bu sãawa tɔnu ù **Gusunɔ gee wɛ, ka Win Malaikaba, ka Win tirenu, ka Win gòrobu, ka tɔɔ dāakiru. Ù kanamaru gee wɛ, ten gea ka ten kɔsa. Ma durɔ wi u nɛɛ: " A gee gerua"****

لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخَذِيهِ، أَخْبَرَنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ). قَالَ: صَدَقْتَ.

Ma u maa nɛɛ: "A man sɔ̄wɔ̄ yè ba ra nɛɛ gea kobu". Ma Andemi u wii sɔ̄wɔ̄ u nɛɛ: "Gea kobu bu sãawa a Gusunɔ̄ yòru diiya nde a Wii waamɔ̄, domi, à ku Wii waamɔ̄, Wi u nun waamɔ̄. Ma durɔ̄ wi u maa nɛɛ: "A man sɔ̄wɔ̄ saa yè kiyaama ya koo se?". Ma andemi u wii wisa u nɛɛ: "wì ba gari yi bikiamɔ̄ u n̄ yin yēru mɔ̄ n kere wì yì bikiamɔ̄." Durɔ̄ wi u nɛɛ: "A man yen seedaba sɔ̄wɔ̄ bè ba sɔ̄sii mè ya turuku kua". Ma andemi u wii wisa u nɛɛ: "Saa yè yòo tɔn kurɔ̄ u koo win yinni ma, kpa a bwēbwēe sabe kparobu wa bè ba ra n sīimɔ̄ bàranu sari, yānu sari, ba n gàraasa mò dii baka nì nu sɔ̄ndinen banaa sɔ̄ɔ̄. Umaru u nɛɛ: ma durɔ̄ wi u dɔ̄ɔ̄na. Sa sina mi kɔ̄bi gɛɛ. Ma Andemi u nɛɛ: "Umaru woo! I yē wì u man gari bikia mi ro?" Ma sa nɛɛ: "Aawo", "Gusunɔ̄ ka win gòro, bera ba yēru kere". Andemi u nɛɛ "Durɔ̄ wi mè, : Malaika Gibirilawa mi. U nawa ù bɛɛ bɛɛn sãaru sɔ̄ɔ̄si "

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ). قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ). قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنْ السَّائِلِ؟). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (هَذَا جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ). أخرجہ مسلم: كتاب الإيمان (١) (٨): باب: بيان الإيمان و الإسلام والإحسان

Besen Andemi Muhammadun tububu Gusunɔn

tɔbiribu ka Win daakari kpindu tɔ Andemi turiri

Win yĩsira Muhammadu, *Abudulain* bii, ma *Abudulai* u sãa *Abudulu Mutalibun* bii, ma wi u màa sãa *Haasimun* bii. *Haasimu* u sãawa *koreesaawa* bweseru ma *koreesaawa* ba sãa *daarububa*. Daarubu ba yarawa saa Isimailun min di, ma Isimailu u sãa andemi Iburaahimu (Gusunɔn bɔɔɔ kinasin) bii. Andemi Muhammadu u wãaru diwa wɔɔ wata ka ita. U kuawa wɔɔ weeru u ñ sãa andemi ma u kua andemiru ka gòroru sɔɔ wɔɔ yenda ita. Tɔɔ tɛ suura *Al ālakɔ* (Suura 96sen) aaya gbiika ya saraa, tɔɔ tera u kua andemi. (aaya yera: **"A gario!"**)

Saa yè suura *Al Mudasiru* (Suura 74se) ya sara, saa yera u kua Gusunɔn gèro. Win wuuwa Maka. Gusunɔ u wii gòrawa ù tɔmbu bũu sãaru kai ko kpa ù tɔmbu soku bù Gusunɔ turo ko. Gari yinin daliili wee aaya yeni sɔɔ: **"Wunε wì a tii gɔkɔ wukirimɔ! A seowo kpa a kai ko. Kpa a wunen Yinni Gusunɔn sina bandu kpɛasia, kpa a wunen yãnu dɛerasia kpa a ka tii tòranu kpuro tonda."** Suuratu Mudasiru

(Suura 74se) yen aaya gbiikan di sere ka 7.

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فِي النُّبُوَّةِ. نُبِّئَ بِ(أَفْرَأَ)،

وَأُرْسِلَ بِ(الْمُدَّتِّرِ)، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ. بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّدَارَةِ عَنِ الشِّرْكَ، وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ١-٧].

Aaya ye sɔɔ, mì Gusunɔ u nɛɛ: (*A seewo kpa a kai ko*), U geruawa mi, a tɔmbu bũu sãaru kai ko kpa a bè soku bù Gusunɔ turo ko. Mì ba màa nɛɛ (*a wunen Yinni Gusunɔn sina bandu kpɛasia*) a win sina bandu kpɛasia ka win turo kobu. (*kpa a wunen yãnu dɛerasia*) ya geruawawa mi mè a wunen sɔma kpuro ka bũu sãaru tondasia. Mì ba màa nɛɛ (*a ka tii tòranu kpuro tonda*), tòra tè ba ka yãa mini tera bũnu. A bũu ni ka bè ba ni sãamɔ deri, kpa a ni tusi kpa a bè ba ni sãamɔ tusi.

U kuawa wɔɔ wɔkuru u tɔmbu sokuu bù Gusunɔ turo ko. Wɔɔ wɔku ten birua ba ka wii wɔllu da, min diya Gusunɔ u sun guru tɔbiribu nɔɔbu yiire. U gura tɔburawa Makaɔ wɔɔ ita, ma Gusunɔ u wii nɔɔ kã ù swenya ù da Madiinaɔ. Swenya bi bu sãawa a bũu sãarun tem yari kpa a wura asilaamarun temɔ.

A bũu sãarun tem yari kpa a wura asilaamarun temɔ ya asilaama kpuro sãawewa tiraasi sere kiama yù ka se,

وَمَعْنَى: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾: يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ. ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾: أَي: عَظِّمُهُ بِالتَّوْحِيدِ. ﴿وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ﴾: أَي: طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾: الرُّجْزُ: الْأَصْنَافُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالْبِرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلُهَا،

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْهَجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ.

وَالْهَجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ،

Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **"Bè ba tii kōsa kua, malaika bà n ben wunde wunamɔ ba ko n bè sɔɔmɔwa: mba sɔɔwa i ràa wāa?" yera ba koo nɛɛ "Sa raa sāawa kpanɔbu tem sɔɔ" kpa malaika bù nɛɛ "Gusunɔn tem kùn da yasuwa i ka wa i swenya?" Ben wura yera dɔɔ yenu, wura yee te ta màa kōsuru kua. N ò ka de kpanɔbu tɔn durɔbu sɔɔ, tɔn kurɔbu ka bibu sɔɔ, bè ba ò yiko mɔ, ba ò màa swaa gaa mɔ: beni, n koo kpī ò koora Gusunɔ ù bè gaafara kua. Gusunɔ U sāawa Wì u ra tɔmbu kare ma U sāa Gaafara kowo "**
Suuratu Nisaa-i (Suura 4se) yen aaya 97se sere ka 99.

Ma U maa nɛɛ: **"Bɛɛ nen yòò bè i man gee wē! Nen tem mu yasuwa mē, nena i ko yòru diiya".** *Suuratu Ankabuuti (Suura 29se) yen aaya 56se.*

Yēro wì ba sokumɔ Alu Bagāwì (*Gusunɔ ù wii wɔnwɔndu kua*) u nɛɛ: " Yè n kua saabu aaya ye ya ka sarama asilaamaban wollo yera yè asilaama gabu ba sina Makao ba ò swenye. Adama ka mɛ Gusunɔ u bè sokawa " ka gee wēwobun yīsiru."

Yè ya sāa tem swenyabun daliili sunna sɔɔ yera yè andemi (*Gusunɔn tɔbiribu ka win daakari kpindu, tu wii turiri*) u nɛɛ: " Tem swenyabu kùn kpeemɔ ma tuuba mwabu bu tie. Ba ko n màa tuuba mwamɔwa ma sɔɔ kùn yara sɔɔ kpee yerun di". *Hadiisi ye ya wāa Ahamadun tireru sɔɔ.*

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَّا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: 97-99].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: 56].

قَالَ الْبُغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

Gea gaa sari yè u ò win tǎmbu sǎosi, kǎsa gaa màa sari yè u ò bè yanka. Gea yè u bè sǎosi yera Gusunǎ turo kobu ka yè Gusunǎ U kǐ kpuro ma U ka yè yolla kua. Kǎsa yè u bè yanka yera bǔu sǎaru ka yè Gusunǎ U tusaa kpuro ma U yè yinε. Gusunǎ u wii gòrimawa tǎmbu kpuron mi. Ma U siiniba ka tumbu kua tiraasi bu wii swǐi.

Yen daliili wee Gusunǎn gere yeni sǎa: **(A nεε, bεε tǎmbu woo! Na bεε kpuro sǎawewa Gusunǎn gǎro)**
Suuratu Al ā araf (Suura 7se) yen aaya 158se.

Wiya Gusunǎ u ka sǎaru yibia. Yen daliili wee Gusunǎn gere yeni sǎa: **"Gisǎ, Na bεε bεen sǎaru yibiya, ma Na bεε nen kǎnu kpuro kua, ma Na bεε asilaamaru yolla kua ta n sǎa bεen sǎaru"**. *Suuratu Maa-i-da (Suura 3se) yen aaya 3se.*

Yè ya win gǎa sǎosii yera Gusunǎn gere yeni: **"Ka gem, kaa gbiwa, ben tii ba màa gbiwa. Yen biru kiyaama see tǎru i ko siri bεen Yinnin mi."** *Suuratu Zumar (Suura 39se) yen aaya 30 ka 31se.*

Tǎmbun gǎan biru, ba koo bè seeya. Yè ya sǎosii mε, ye wee Gusunǎn gere yeni sǎa: **"Tema sa ka bεε taka kua, mε sǎawa sa koo bεε wesia, men min diya sa ko maa wure su bεε yara."** *Suuratu Tǎghaa (Suura 20se) yen aaya 55se.*

لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرًّا إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشِّرْكَ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١].
 وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥].

Ka maa win gere yeni: **"Gusunɔwa u bεε kpiisia tem di nde dānu, tem mε sɔɔwa u koo maa bεε wesia, min diya u koo maa wure ù bεε yara."**

Suuratu Nuuhu (Suura se) yen aaya 17 ka 18se.

Gɔribun seesiabun biru, ba koo tɔmbu siriya kpa bù bè ben sɔman kɔsiaru ko. Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ: **"Gusunɔwa u mɔ yè ya wāa wollɔ ka yè ya wāa temɔ, nwa ù bè ba kɔsaa kua kɔsiaru ko nde mèn saka ba kua kpa ù bè ba gea kua kɔsia geeru ko."** *Suuratu Annajm (Suura 54se) yen aaya 31se.*

Wì u gɔɔn birun seeyabu siki, u kuawa mi kèferi. Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ, **"Bè ba kèferiru kua ba dokee ba ù bè seeyamɔwa gɔɔn biru. A nεε aawo! Ka Gusunɔ! Sika sari ba koo bεε seeyawa gɔɔn biru kpa bu bεε yè i ràa kuan daabaaru sã. Ye ya màa Gusunɔ sãawewa sɔɔki."**

Suuratu Tɔgāabun (Suura se) yen aaya 7se.

Gusunɔ u gòrobu kpuro gɔrimawa ba n sãa daabaaru dora gerobu ka kai kowobu. Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ, **"Gɔrobu, daabaaru dora gerobu ka kai kowobu, nwa gòro ben naarun biru tɔmbu bù kù saabu gaa wa Gusunɔn wuswaawɔ"**. *Suuratu Nisaa-i (Suura 4se) yen aaya 165se.*

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: ١٧، ١٨].

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسِبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١].

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

Ben gbiikowa Nuuhu (Gusunɔn tɔbiribu b̀ wii turiri) ma Muhammadu (Gusunɔn tɔbiribu ka Win daakari kpindu t̀ wii turiri) u s̄a ben d̄aako, wiya Gusunɔ u m̄a ka andemiba wiru go. Ỳe ya s̄ɔsi m̀e Nuuhuwa (Gusunɔn tɔbiribu b̀ wii turiri) u s̄a g̀robun gbiiko, ye wee Gusunɔn gere yeni s̄ɔɔ: **"Sa nun gari sarasiama nde m̀e sa r̀a Nuuhu sarasiya ka andemi b̀e ba na win biru"**

Suuratu Nisaa-i (Suura 4se) yen aaya 165s

Gusunɔ u sanam baamenen t̄mbu g̀ro g̀riawa saa andemi Nuuhun min di sere ka andemi Muhammadun mi, ù b̀e f̀oro ko bu Gusunɔ t̄na ỳoru diiya kpa u n b̀e yinasiamɔ bu b̄u s̄a. Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni s̄ɔɔ: **"Sa waati baayeren t̄mbu g̀ro g̀riya (ù b̀e s̄ɔ): "I Gusunɔ ỳoru diiyo kpa i ka b̄nu tonda."** Suuratu Nahal (Suura se) yen aaya 36se

Gusunɔ U ỳebu yiyawa b̀ b̄nu siki kpa b̀ Gusunɔ turo gee w̄.

Ỳero ẁi ba sokomɔ Ibutu K̄yimu (Gusunɔ ù wii w̄nw̄ndu kua) u n̄e: " Ỳe ba ra n̄e b̄u s̄aru yera ỳe ỳo u ka saria sara s̄aru s̄ɔɔ, sw̄ibu s̄ɔɔ ka mem n̄ɔɔbu s̄ɔɔ.

وَأَوْلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوْلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَّهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ.

Bũnu nu wùunu dabi adama nin winu nu sãawa nɔɔbu:

- Ibiliisi (seetambam guro guro), Gusunɔ u wii bõrusi.
- Wì ba sãamɔ ma u yè yolla sãa.
- Wì u tumbu sokuu bu wii yòru diiya.
- Wì u tamaa sãa mè wi u yē yè Gusunɔ u beruwaa.
- Wì u ku ra siri ka Gusunɔn saria.

Yen daliili wee Gusunɔn gere yeni sɔɔ:

"Tiraasi sari adiini sɔɔ! Domi gean swaa ka tɔrarun swaa ya wunana. N̄ n men na wì u bũu siki ma u Gusunɔ gee wē, wiya u wēē damgia nɛnu, yè ya n̄ karamɔ. Gusunɔ U sãawa Wì u ra gãanu kpuro nɔɔ ma U gãanu kpuron yēru mɔ". Suuratu Bakarɔ (Suura 2se) yen aaya 256se

Yeniwa ba ra nɛɛ, **"yinni goo sari wì n weenɛ bu yòru diiya ka gee ma n kùn Gusunɔ"**

Hadiisi sɔɔ ye wee: "Yè ya kere kpuro yera asilaamaru, yen gberewa guru tɔbiribu, yen sin yee tè ta kere, tera tabu kobu Gusunɔn swaa."

Gusunɔwa U yēru kere. Gusunɔn tɔbiribu ka Win daakari kpindu tù Andemi turiri, ka win yenun tumbu ka win bwãabu.

وَاطْوَاغَيْتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ:

إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ،

وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ،

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ،

وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ،

وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ

الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَفِي الْحَدِيثِ: (رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ،

وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلَّمَ